

تعلیمی وظیفہ میں اضافہ

تعلیمی لحاظ سے پسماندہ پنجاب کے 16 اضلاع میں بچیوں کی تعلیم کے لئے حکومت پنجاب کا اہم قدم

چھٹی تا دسویں جماعت کی طالبات کے لئے **1000 روپے** ماہانہ وظیفہ (سہ ماہی ادائیگی)

Raise in

Educational Stipend

Rs. 6 billion project for schoolgirls of 16 low-literacy districts of Punjab

For schoolgirls of Class 6 to 10

Rs **1000** monthly stipend (paid quarterly)



سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ
حکومت پنجاب

منتخب اضلاع

بھکر، قصور، اوکاڑہ، لودھراں، وہاڑی، پاکپتن، خانیوال، جھنگ، ڈیرہ غازی خان،
راجن پور، مظفر گڑھ، لیہ، بہاولپور، بہاولنگر، رحیم یار خان اور چنیوٹ

Selected Districts

Bhakar, Kasur, Okara, Lodhran, Vehari, Pakpattan, Khanewal
Jhang, Dera Ghazi Khan, Rajanpur, Muzaffargarh, Layyah,
Bahawalpur, Bahawalnagar, Rahim Yar Khan and Chiniot



سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ
حکومت پنجاب

اہلیت:

- ششم تا میٹرک کی وہ طالبات جن کی حاضری %80 سے زائد ہو
- تعلیمی سال دہرانے والی طالبات دوسرے سال میں وظیفہ کی اہل نہیں

ELIGIBILITY

- Schoolgirls of Class 6 to 10 with at least 80% attendance
- Those repeating an academic year are ineligible



سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ
حکومت پنجاب

خدمت کارڈ حاصل کرنے کا طریقہ

خدمت کارڈ آپ کے علاقے میں قائم خصوصی مراکز سے مفت فراہم کیا جائے گا۔

آپ مندرجہ ذیل دو طریقوں سے اپنی رقم حاصل کر سکتے ہیں۔

02 آپ بینک آف پنجاب کے کسی بھی نزدیکی رقم ادائیگی مرکز (ایجنٹ) پر اپنے اصل شناختی کارڈ اور خدمت کارڈ کے ذریعے مفت نکلوا سکتے ہیں۔

خدمت کارڈ کے ذریعے ایجنٹ سے رقم وصول کرنے کا طریقہ کار

- 1 موبائل سے #267* ڈائل کریں۔
- 2 رقم کی وصولی کے آپشن میں جائیے اور اپنی مطلوبہ رقم کا اندراج کیجئے۔
- 3 ٹرانزیکشن کی توثیق کے لئے سسٹم آپ سے چار (4) ہندسوں پر مشتمل "MPIN" کے اندراج کے لئے کہے گا۔ اس کا اندراج کیجئے۔
- 4 آپ کو 8267 سے ایک ایس ایم ایس موصول ہوگا جس میں رقم نکلوانے کے لئے ایک خفیہ کوڈ موجود ہوگا۔
- 5 والدین کسی بھی تقرر شدہ ایجنٹ کو اپنا کمپیوٹرڈ قومی شناختی کارڈ دکھا کر اپنی رقم وصول کر سکتے ہیں۔
- 6 ٹرانزیکشن مکمل ہو جانے کے بعد آپ کو آپ کے رجسٹرڈ موبائل نمبر پر تصدیقی ایس ایم ایس موصول ہوگا۔
- 7 ٹرانزیکشن کے مکمل ہوتے ہی خدمت کارڈ ایجنٹ آپ کو رقم فراہم کرے گا۔ فراہم کردہ رقم کی ایس ایم ایس میں دی گئی رقم سے تصدیق کریں اور مکمل رقم لئے بغیر نہ جائیں۔
- 8 اگر رقم نکلوانے میں کوئی دشواری ہو تو ذیل میں دیئے گئے نمبر پر فوری کال کریں۔

نوٹ:

مزید تفصیلات کے لئے زوننگ کی ہیلپ لائن
0311 11 11 267 پر کال کریں

01 آپ اپنی رقم کسی بھی بینک کی ATM مشین سے خدمت کارڈ اور دیئے گئے خفیہ نمبر کے ذریعے مفت نکلوا سکتے ہیں۔

خدمت کارڈ کے ATM پر استعمال کے مراحل

- 1 "Insert Card" والی جگہ میں خدمت کارڈ داخل کریں۔
- 2 Keypad کے ذریعے اپنا مخصوص خفیہ نمبر درج کریں۔
- 3 Keypad کے ذریعے اپنی مطلوبہ رقم درج کریں۔
- 4 ATM سے اپنا خدمت کارڈ واپس نکال لیں۔
- 5 اپنی مطلوبہ رقم فوراً حاصل کریں۔
- 6 رسید حاصل کریں۔

اے ٹی ایم پون جزیشن کا طریقہ کار

- 1 اپنے موبائل سے #267* ڈائل کریں۔
- 2 مینیو ابھرنے پر ڈیٹ کارڈ کا آپشن منتخب کریں۔
- 3 مزید ذیلی مینیو میں جا کر اے ٹی ایم پون جزیشن کا انتخاب کریں۔
- 4 پھر اپنے منتخب کردہ 4 ہندسوں (4 ڈیجٹ) والے نمبر کا اندراج کریں۔
- 5 پہلے درج کئے ہوئے اے ٹی ایم پون کے 4 ہندسوں کا دوبارہ اندراج کریں۔
- 6 اب اپنے MPIN کا اندراج کریں (MPIN کاؤنٹ کھولتے وقت ایس ایم ایس کے ذریعے موصول ہوتا ہے)۔
- 7 اوپر دیئے گئے طریقہ کار کو صحیح طریقے سے مکمل کرنے پر آپ کی اے ٹی ایم پون جزیٹ ہو جائے گی اور اے ٹی ایم پون کی کامیاب جزیٹیشن کا تصدیقی ایس ایم ایس موصول ہوگا۔



سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ

حکومت پنجاب

خدمت کارڈ سے متعلق ضروری ہدایات

- خدمت کارڈ کو چوری / گم / ضائع ہونے سے بچائیں۔ ایسی صورت میں اس کے غلط استعمال کا اندیشہ ہے۔
- آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے کارڈ اور دیئے گئے خفیہ نمبر کو بحفاظت اور دوسروں کی پہنچ سے دور رکھیں تاکہ آپ کے خفیہ نمبر اور کارڈ کا غلط استعمال نہ ہو سکے۔ ایسا ہونے کی صورت میں فوری طور پر بینک کی ہیلپ لائن پر فوری رابطہ کریں تاکہ غلط استعمال کو بروقت روکا جاسکے۔

آپ اپنے خدمت کارڈ اور دیئے گئے مخصوص خفیہ نمبر کی خود حفاظت کریں تاکہ آپ کا خدمت کارڈ کوئی اور استعمال نہ کر سکے۔

آپ اپنا مخصوص خفیہ نمبر بھولنے / گم / ضائع ہونے کی صورت میں بینک کے مندرجہ ذیل نمبر پر رابطہ کر کے یہ خفیہ نمبر دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔

بینک آف پنجاب ٹول فری نمبر: 0311 11 11 267



سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ
حکومت پنجاب

یاد رہے کہ خدمت کارڈ کے ذریعے دیے جانے والے مبلغ ایک ہزار روپے ماہانہ (تین ہزار روپے سہ ماہی) کا بڑا مقصد طالبات کی تعلیم، صحت اور نشوونما کی ضروریات کو پورا کرنا ہے تاکہ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند ہو کر اپنے حال اور مستقبل میں معاشرے کی کارآمد رکن بن سکیں۔ ان کے والدین اور اہل خانہ سے درخواست ہے کہ وہ اس رقم کا استعمال اپنی بچیوں کی تعلیم اور متوازن غذا پر کریں تاکہ ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل ممکن ہو سکے۔

متوازن غذا

متوازن غذا سے مراد وہ غذا ہے جس میں جسم کی صحت مند نشوونما اور سرگرمیوں کے لئے درکار تمام اجزاء اور تمام ضروری وٹامن مناسب مقدار میں موجود ہوں۔ یہ اجزاء کیونکہ مختلف اشیاء میں مختلف مقدار میں موجود ہوتے ہیں، اس لئے ضروری ہے کہ ملی جلی اشیاء مثلاً گوشت، دودھ، سبزی، دالیں اور پھل وغیرہ کا استعمال کیا جائے۔



سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ
حکومت پنجاب